

Briefing on COVID-19 related issues for Heads of Diplomatic Missions and International Organizations in New Delhi

November 06, 2020

نئی دہلی میں ڈپلومیٹک مشنز اور بین الاقوامی تنظیموں کے سربراہان کو کووڈ 19 سے متعلق امور پر بریفنگ

06 نومبر، 2020

1- وزارت خارجہ نے 6 نومبر 2020 کو نئی دہلی میں سفارتی مشن اور بین الاقوامی تنظیموں کے لئے کووڈ 19 سے متعلق امور پر بریفنگ سیشن کو آرگنائز کیا۔ سفارتی مشنز اور بین الاقوامی تنظیموں کے 190 سے زائد سربراہان اور ان کے نمائندوں نے بریفنگ میں شرکت کی۔

2- مارچ 2020 کے بعد سے، ہندوستان نے دوائیوں، تشخیصی کٹس اور طبی سامان کی فراہمی کے ساتھ ساتھ ٹیسٹ اور کیس مینجمنٹ کے لئے آن لائن ٹریننگ پروگراموں کا اہتمام کر کے، کووڈ 19 کے خلاف مشترکہ لڑائی میں اپنے شراکت دار ممالک کے ساتھ سرگرم عمل ہے اور ان کے ساتھ تعلقات کو برقرار کر رکھا ہے۔ ویکسین ڈویلپمنٹ پروگرام میں پیشرفت کے ساتھ ساتھ، بھارت نے پڑوسی ممالک کے لئے کلینیکل ٹرائلز کے سلسلے میں ٹریننگ پروگراموں کا اہتمام کیا جس میں 8 ممالک کے 90 کے قریب ماہرین نے شرکت کی۔ ہم پڑوسی ممالک اور دیگر دلچسپی رکھنے والے ممالک کے ساتھ تعاون کے پروگرام کو بڑھانے کے لئے تیار ہیں۔

3- آج کی بریفنگ میں، شرکاء کو نیتی ایوگ کے ممبر ڈاکٹر ونود کے پال، اور بھارتی حکومت کے پرنسپل سائنسی مشیر پروفیسر کے وجے راگھاون، اور ہیلتھ سیکریٹری شری راجیش بھوشن؛ اور محکمہ بائیوٹیکنالوجی کے سیکرٹری ڈاکٹر رینوسوارپ، اور محکمہ سائنس اور ٹکنالوجی کے سیکریٹری پروفیسر آشوتوش شرما، اور کونسل برائے سائنسی اور صنعتی تحقیق کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر شیکھر مانڈے اور وزارت برائے الیکٹرانکس اینڈ انفارمیشن ٹکنالوجی کے ای گورننس ڈویژن کے صدر اور سی ای جناب ابھیشیک سنگھ نے بریف کیا۔ خارجہ سیکریٹری جناب ہرش وردھن شرنگلا نے بھی اس بریفنگ میں شرکت کی۔

4- شرڪاءِ كو ھندوستان كى كووڊ 19 كے مينيجمنٽ، اس كے حوالے سے ويكسين ٽولپمنٽ پروگرام، سافٽ ويئر اور ويكسين كى فراھمى كے نظام اور بين الاقوامى تعاون سے متعلق امور كے بارے ميں بريفنگ ڏي گئي۔ اس بريفنگ ميں اس بات كا بهي تذڪره ڪيا گيا كه وزارت خارجہ سفارتي مشنز اور بين الاقوامى تنظيمون كے سربراھون كے لئے پونے شھر كے ايڪ دورے كا اہتمام ڪرے گي جہاں وہ كووڊ 19 سے متعلق تحقيق اور ويكسين ٽولپمنٽ پروگرام ميں مصروف اداروں كا دورہ ڪرسڪين گے۔

ننى دہلى

06 نومبر، 2020

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.